



سوال

محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے پانچ ارکان کیوں اختیار کئے؟

جواب

الحمد للہ

اس سوال نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے جو کہ دین اسلام اور اسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام پر دلالت کرتا ہے۔

اے ننھے ننھے سائل ہمیں آپ کے اس اہتمام اور سوال کی حرص پر بہت خوشی ہوئی ہے اور یہ کہ آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کا جواب باوثوق ذرائع سے حاصل ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ سوال آپ کے لئے بھلائی اور خیر کو لانے اور حق کی راہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن جائے اور اللہ تعالیٰ ہی سیدھے راہ کی ہدایت دینے والا ہے۔

آپ کے سوال کا جواب حاضر ہے :

(محمد) صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا تاکہ انہیں شرک و کفر کی اندھیری کوٹھڑیوں سے نکال کر نور و ہدایت اور اسلام کی روشنی میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دیں۔

اور انہیں اچھے اخلاق کا حکم دیا تاکہ وہ کرم، سخاوت، شجاعت، مہمان کا عزت و احترام کریں۔ پڑوسیوں کے ساتھ احسان اور والدین کی اطاعت کریں، بڑے کا احترام کریں، چھوٹے کے ساتھ شفقت سے کام لیں اور بھولے ہوئے کو راہ پر لگائیں اور مساکین پر رحم و کرم اور ضرورت مند محتاجوں کا تعاون کریں۔ مظلوموں اور بے کسوں کی مدد اور مصیبت زدہ سے مصیبت کو رفع کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے اور بھی کئی ایک محاسن اور فضائل کا حکم دیا۔

اور انہیں شرک، کفر، بدعات، برے اخلاق، زنا، جھوٹ، خیانت، دھوکہ، والدین کی نافرمانی اور ظلم و زیادتی وغیرہ کرنے سے منع فرمایا، سوال نمبر (219) کا بھی مراجعہ کریں۔

اور رہی ارکان اسلام کی بات تو آپ کو علم ہونا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت سے نوازے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اس بات کے پابند ہیں اور انہیں یہ حکم ہے کہ ان کی طرف جو چیز بھی وحی کی جائے وہ اسے بغیر کسی کمی و زیادتی اور نقصان کے لوگوں تک پہنچادیں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے :

اور اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنالیتا تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے پھر اس کی شہ رگ کاٹ دیتے پھر تم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا انا حق۔ / (44 - 47)

اور اگر ہم اسلام کے ارکان خمسہ میں غور فکر کریں تو ہم انہیں مختلف انواع میں پائیں گے۔

پہلا رکن شہادتان ہیں: یعنی (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ) جس میں دل اور زبان کے اعمال کو جمع کر دیا گیا ہے۔

اور دوسرا رکن: نماز ہے یہ ایسا فعل اور عمل ہے جس کا تعلق بدن سے ہے اور دن اور رات کے تقسیم کردہ اوقات میں رب اور بندے کے درمیان صلہ اور رابطہ ہے۔



تیسرا رکن : روزے ہیں : جو کہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کھانے پینے اور جماع اور روزہ ختم کرنے والی دوسری اشیاء سے طلوع فجر سے لیکر غروب تیس تک پرہیز اور رکنا ہے۔

تو مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے روزہ رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ان مسلمان بھائیوں کے متعلق احساس پیدا ہوتا ہے جو کہ فقیر ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔

اور جو تھوکار کن زکاۃ ہے : یہ ایسا عمل ہے جس کا تعلق مال سے ہے مسلمان جس کے پاس قدرت ہو وہ مال میں سے کچھ حصہ اپنے فقراء اور مساکین مسلمان بھائیوں پر خرچ کرتا ہے۔

اور پانچواں رکن حج ہے : یہ ایسا عمل ہے جس میں مال خرچ کرنا اور بدنی عمل دونوں جمع ہیں۔

تو اگر آپ ان ارکان خمسہ پر غور و فکر اور تدبر کریں گے تو اس میں آپ کو بہت ہی عظیم حکمتیں ملیں گی تو اسلام اس پر قائم ہے کہ :

شکر سے علیحدگی اختیار کر کے خالص توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی جائے اور یہ کہ اللہ وحدہ کی عبادت بھی مشروع طریقہ پر کریں اور وہی کریں جو ہمارے لئے عبادت میں مشروع کیا گیا ہے۔

بعض لوگوں پر یہ آسان ہوتا ہے وہ بدنی عمل کریں لیکن ان کے لئے مال خرچ کرنا مشکل اور مشقت والا کام ہوتا ہے تو زکاۃ میں ایسے لوگوں کی پھانک اور تیز ہوتی ہے اور ان کا امتحان ہوتا ہے کہ آیا وہ مال خرچ کرتے ہیں کہ نہیں۔

اور بعض لوگوں پر بہت زیادہ مال خرچ کرنا تو آسان ہوتا ہے لیکن ان کے لئے بدنی اعمال کرنے مشکل اور ان کے کرنے میں مشقت ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کے لئے نماز فرض کی گئی تاکہ لوگوں کا امتحان ہو سکے۔

اور بعض لوگوں پر نماز پڑھنا اور زکاۃ ادا کرنا یہ دونوں کام آسان ہوتے ہیں لیکن انہیں اپنی پسندیدہ چیز میں کھانا پینا اور جماع کی لذت کو ترک کرنا مشکل ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کے لئے روزہ امتحان اور آزمائش ہے۔

اور حج میں مالی اور بدنی دونوں عبادتوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔۔۔

اس کے علاوہ بھی ان عبادت میں کئی ایک حکمتیں اور چھٹی غرض و غایت ہے۔

اور یہ سب اوکان تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کردہ ہیں جو کہ ہمیں صادق و امین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائے اور جنہیں مسلمانوں نے قبول اور تسلیم کیا ہے۔

ہم اللہ تعالیٰ سے سب کے لئے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔